

Press Release by Ministry of Health and Family Welfare (14.03.2020)

March 14, 2020

وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی طرف سے پریس ریلیز (14.03.2020)

14 مارچ، 2020

حکومت ہند نے کووڈ 19 کی بہتر روک تھام، کنٹینمنٹ اور اس سے نمٹنے کے لئے متعدد فعال اور بروقت اقدامات کیے ہیں جن میں سفر کی پابندیاں، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں پر سبھی مسافروں کی اسکریننگ، ویزا کی معطلی اور ذاتی قرنطینہ جیسے اقدامات شامل ہیں۔

اضافی قرنطینہ سہولیات کی نشاندہی، آنسولیشن وارڈز کا قیام، ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹروں کی ٹریننگ، مناسب طبی سازوسامان، پی پی ای، دوائیوں، ماسک وغیرہ کی فراہمی کو تمام ریاستوں اور یونین علاقوں میں مزید بڑھایا جا رہا ہے۔

کابینہ کے سکریٹری نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف ریاستوں کے چیف سکریٹریوں کے ساتھ جاری تیاری اور کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آنسولیشن وارڈز کے مناسب تعداد کے ذریعہ وبا کی روک تھام اور کنٹرول کے اقدامات کو مستحکم کرنے، قرنطینہ سہولیات کو بڑھانے پر زور دیا، اور اس بات کو یقینی بنانے پر زور دیا کہ نامزد ممالک سے آنے والے افراد کو طے شدہ تعلیمات کے مطابق قرنطینہ میں رکھا جائے، اور کووڈ 19 کے حوالے سے بڑے پیمانے پر آگاہی کے لئے اٹھائے جانے والے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔

ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کی کمی اور بلیک مارکیٹنگ کی روک تھام کے لئے، حکومت ہند نے 30 جون 2020 تک کے لئے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر کو ضروری ایشیا ایکٹ کے تحت انہیں ضروری ایشیا قرار دے دیا ہے۔ ضروری ایشیا ایکٹ کے تحت ریاستی حکومتیں سپلائی چین کو آسان بنانے کے لئے مینوفیکچررز سے ان اشیاء کی پیداوار کی صلاحیت بڑھانے کے لئے مطالبہ کر سکتی ہیں۔

کچھ ریاستیں متعدی بیماری ایکٹ 1897 کے تحت متعدی بیماری سے نمٹنے کے لئے قابل عمل احکام کو بھی بروئے کار لائی ہیں۔ اس ایکٹ کے تحت ریاست کسی بھی شخص کو کچھ اقدامات اٹھانے کے لئے مطالبہ کر سکتی ہے یا ریاست کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے یا کسی بھی شخص کو کچھ اقدامات اٹھانے کے لئے اختیار دے سکتی ہے اور عوامی نوٹس کے ذریعہ اس طرح کے عارضی ضابطوں کو لاگو کر سکتی ہے جسے عام پبلک کو ماننا ہو گا۔

ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت، ریاستیں / یونین علاقے، اب ریاستی حکومت اور نیشنل ہیلتھ مشن کے فنڈز کے علاوہ اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ سے بھی فنڈز حاصل کر سکتی ہیں۔ وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں ریاستوں / یونین علاقوں کو تفصیلی ہدایات جاری کی ہیں۔

اس کے علاوہ، کووڈ 19 کے جانچ کے لئے تیار کردہ ایب کے نیٹ ورک کو مجموعی طور پر 52 تک بڑھا دیا گیا ہے۔

مزید برآں 30 نامزد ہوائی اٹوں پر 11406 پروازوں سے آئے ہوئے 1229363 مسافروں کی اسکریننگ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ، آنے والے تمام مسافروں کے لئے ہدایت نامہ کے مطابق قرانطینہ نافذ کرنے کی ہدایت پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔

ابھی تک، ملک میں کوویڈ 19 کے 84 مثبت معاملات ہیں۔ ان میں سے 10 بازیاب ہو چکے ہیں اور انہیں ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ان مریضوں کے رابطے میں آئے ہوئے 4000 سے زیادہ لوگوں کی شناخت کی گئی ہے جنہیں سرویلانس میں رکھا گیا ہے۔ ان مریضوں کے رابطے میں آئے ہوئے مزید لوگوں کی نشاندہی کی کوششیں جاری ہیں۔

اس بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہندوستانی شہریوں کو سختی سے مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک ہر طرح کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور ہماری طرف سے جاری کردہ سفر کی ایڈوائزری کے مطابق زیادہ کورونا کے معاملات اور اموات درج کرنے والے ممالک میں سفر کرنے سے گریز کریں۔ ہندوستان آنے والے تمام بین الاقوامی مسافروں کو اپنی صحت کی خود نگرانی کرنی چاہئے اور حکومت کے ذریعہ تفصیل کے مطابق جاری کردہ تعلیمات پر عمل کرنا چاہئے۔

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.

